

# TLC ڈرائیورز لائسنس درخواست رہنما

پیلی ٹیکسی  
سبز ٹیکسی  
For-Hire گاڑیاں

تقاضے  
اور فیسیں

گاڑی چلانے کے لئے TLC ڈرائیورز لائسنس درخواست  
رہنما

- Medallion ٹیکسی کیبز (پیلی)
- SHL گاڑیاں (سبز)، اور
- For-Hire گاڑیاں

مزید معلومات کے لئے ملاحظہ  
کریں:

[www.nyc.gov/  
tlclicenseinfo](http://www.nyc.gov/tlclicenseinfo)

درخواست دینے کے لئے ملاحظہ  
کریں:

[www.nyc.gov/lars](http://www.nyc.gov/lars)

آپ کو آن لائن درخواست دینا ہو گی۔  
آپ بذاتِ خود حاضر ہو کر درخواست نہیں  
دے سکتے۔

فیسیں:

- تمام فیسیں ناقابلِ واپسی ہیں – کوئی استثناء نہیں ہے۔
- لائسنس: \$252.00 تین سالہ لائسنس کے لئے
- منشیات کے لئے جانچ: \$32.00
- انگلیوں کے نشانات/تصویر: \$90
- 24-گھنٹے کی کلاس: \$100-\$175
- امتحان: \$49 فی کوشش
- WAV تربیت: \$50-75
- دفاعی طریقے سے گاڑی چلانے کا کورس: \$25

**NYC**  
Taxi & Limousine  
Commission

NYC Taxi & Limousine Commission  
Division of Licensing  
31-00 47<sup>th</sup> Avenue, 3<sup>rd</sup> Floor  
Long Island City, NY 11101

## TLC ڈرائیورز لائسنس درخواست رہنما: پبلی ٹیکسی، سبز ٹیکسی، For-Hire گاڑیاں

### تقاضے:

لائسنس حاصل کرنے کے لئے آپ کو درج ذیل تمام تقاضے پورے کرنے ہوں گے:

1. کم از کم 19 سال کی عمر
2. درست DMV شو فرز لائسنس ہو۔ ریاست نیویارک کے لئے یہ کلاس C، B، A، یا E ہوتا ہے۔ دوسری ریاستوں سے چیک کریں۔
3. پارکنگ یا DMV ٹکٹوں کی کوئی رقم واجب الادا نہ ہو
4. درخواست دینے سے قبل 3 سال کے اندر دفاعی طریقے سے گاڑی چلانے کا کورس مکمل کریں
5. وہبل چیئر سے رسائی کی تربیت مکمل کریں
6. 24 گھنٹے کا کورس مکمل کریں اور جانچ میں کامیابی حاصل کریں
7. آپ کے درخواست دینے کی تاریخ سے ماقبل 15 مہینے کی مدت میں آپ کے DMV لائسنس پر 6 سے زیادہ پوائنٹس نہ جمع ہوئے ہوں
8. طبی لحاظ سے صحت مند ہونا
9. منشیات سے متعلق جانچ میں پاس
10. TLC کی ویب سائٹ پر جنسی کاروبار سے آگاہی کی تربیتی وڈیو دیکھیں
11. انگلیوں کے نشانات فراہم کرنا۔ انگلیوں کے نشانات کا مجرمانہ ماضی کے لئے جائزہ لیا جائے گا
12. آپ پر ایسے کوئی فوجداری الزامات زیر سماعت نہ ہوں جو درخواست دینے کے 90 دن کے اندر اندر حل نہ ہو پائیں گے۔
13. صرف Stretch (لمبی) لیموزین کے ڈرائیوروں کے لئے: 19A کمرشل ڈرائیورز لائسنس

### درخواست مت دیں اگر:

#### پچھلے سال کے دوران آپ:

1. 4 یا زیادہ ٹریفک حادثات میں شامل رہے ہوں
2. بغیر لائسنس موٹر گاڑی چلانے کے مجرم پائے گئے ہوں
3. TLC لائسنس رکھنے کے لئے نابل قرار پائے ہوں (درخواست کی تاریخ سے ایک سال تک)
4. منشیات کے لئے جانچ میں ناکام ہوئے ہوں (منشیات کے لئے جانچ میں ناکام ہونے کی تاریخ سے ایک سال تک)

#### پچھلے 3 سال میں TLC نے آپ کو مندرجہ ذیل کے لئے

#### مجرم قرار دیا ہو:

1. نشے کی حالت میں یا خرابی صحت کی حالت میں TLC کی لائسنس یافتہ گاڑی چلانا
2. رشوت، فراڈ، چوری یا ٹھوس حقائق کو چھپانا
3. دھمکیاں، ایذا دہی، گالی گلوچ یا جسمانی طاقت کا استعمال
4. TLC کی لائسنس شدہ گاڑی میں ہتھیار رکھنا

#### پچھلے 3 سال کے دوران آپ کا TLC لائسنس:

1. منسوخ کیا گیا (منسوخ کی تاریخ سے 3 سال تک) یا
2. جب منسوخ کی الزامات زیر سماعت تھے تو اس سے دست برداری اختیار کی گئی یا اس کی ميعاد ختم ہو گئی (دست برداری اختیار کرنے یا ميعاد ختم ہونے کی تاریخ سے 3 سال تک)

### دستاویزات جن کی ضرورت ہے:

آپ کو مذکورہ ذیل تمام دستاویزات TLC کو جمع کروانا ہوں گے:

1. TLC ڈرائیورز لائسنس کی درخواست (صرف آن لائن)
  2. DMV ڈرائیورز لائسنس کی نقل
  3. اگر DMV ڈرائیورز لائسنس ریاست نیویارک کا نہیں ہے تو بیرون ریاستی DMV ڈرائیونگ خلاصہ جو کہ 90 دن سے پرانا نہ ہو
  4. اگر ریاست نیویارک کا DMV ڈرائیورز لائسنس 1 سال سے کم پرانا ہے تو حالیہ بیرون ریاستی DMV ڈرائیونگ خلاصہ
  5. گزشتہ 3 سال کے اندر دفاعی ڈرائیونگ کورس کی تکمیل کا ثبوت
  6. لائسنس یافتہ فزیشن کی جانب سے مکمل کردہ TLC میڈیکل فارم جو 90 دن سے پرانا نہ ہو
- تمام دستاویزات پر آپ کا ایک جیسا نام موجود ہونا چاہئے: سب دستاویزات پر آپ کا پہلا، درمیانی اور آخری نام ایک ہی ہونا چاہئے۔